

I.S.S.B

Inter Services Selection Board

دہرورڈ ہے جو پوری قوم میں سے اہل وطن نوجوانوں کو منتخب کرنے پر قائم کیا گیا ہے۔ جو پوری قوم کے لئے کچھ کر گزرنے اور اس وطن عزیز کا دفاع کرنے کا بھرپور عزم رکھتے ہیں۔ یہ بورڈ تقریباً کرپشن سے پاک ہے اور صرف ان Candidates کو منتخب کرتا ہے جو فورسز کے اہل ہوتے ہیں اور جو Candidates فورسز کے اہل ہوتے ہیں اور Profession میں ماہر ہوں تو پھر انہیں فورسز میں سلیکٹ نہیں کیا جاتا۔

مگر اگر آپ کا عزم ہے اور آپ کا خواب ہے کہ اس قوم کے کام آنا ہے، اس قوم کی خدمت کرنی ہے اور وطن عزیز کا عظیم محافظ بننا ہے۔ صرف اور صرف فورسز (آرمی مایز فورس رینوی) کو جوائن کرتے ہوئے اپنے خواب اور منزل کی تکمیل کرنی ہے تو پھر آپ کو ISSB کے پراسس سے گزرنا ہوگا اور اس کو کیئر کرنا ہوگا۔

میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کی frequency ان کی frequency کے ساتھ میچ کر گئی تو پھر آپ Recommendation Letter لے کر آؤ گے۔

Physics کے سٹوڈنٹس Photoelectric effect کو ذہن میں لائیں۔ اپنے آپ کو Falling Suitable Frequency جو کہ Metal Plate پہ fall کرنی ہے اس کو ذہن میں رکھیں، Thershold frequency (جو کہ Metal Plate کی فری کونسی ہے) اس کو ISSB سمجھیں اور Photoelectron جو Metal Plate سے نکلے گا۔ اے Recommendation letter کہیں۔

اگر falling frequency نے میچ کیا Metal کی Thershold frequency سے تو ہی Photoelectron نکلے گا Metal Plate سے اور Photoelectric effect ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے اپنی فریکوئنسی کو ISSB کی مطلوبہ فریکوئنسی کے ساتھ میچ کیا تو پھر ISSB سے Recommendation Letter نکلے گا جو آپ کے

ہاتھ میں آئے گا۔

آپ نے اسی دم غم کے ساتھ Confidence کے ساتھ اپنے آپ کو ISSB میں جا کر پیش کرنا ہے۔ اور باقی پھر رب کائنات پہ چھوڑ دینا ہے۔

اب آپ نے ISSB جانا ہے پھر رکھ کر کیا Setup بنا کے جانا ہے اور پھر کیسے کیسے Tests سے آپ نے گزر کر جانا ہے اور پھر سب سے ہلکے سب سے بڑھ کر آپ نے اپنی فریکوئنسی کو کیسے ان کی فریکوئنسی کے ساتھ ملانا ہے اس کی مکمل تفصیل میں نے کوشش کی ہے کہ ان نوٹس میں آپ کو بھیجا کر سکوں تاکہ آپ کا خواب پورا ہو۔۔۔ اس ملک کو عظیم لیڈرز ملیں۔۔۔ اس قوم کو بچے اور کھرے اور ایمانت دار و دیانت دار محافظ ملیں اور پھر میری روح کو تسکین ملے کہ جو خواب میرے ہاتھوں پورا نہ ہو سکا وہ میرے محب وطن بھائیوں کے ہاتھوں پورا ہو رہا ہے۔

اگر آپ نے ان الفاظ کو صحیح معنوں میں ذہن نشین کیا اور پھر صحیح معنوں میں عمل کیا تو پھر انشا اللہ میں خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ Recommendation Letter اپنے ہاتھوں واپس لے کر آؤ گے۔

☆☆☆☆☆☆

Love Pakistan or Leave Pakistan

Proude to be Islamic Fundamentalists

First Day

ISSB کے لئے روانگی

- ☆ اپنے گھر کے مکمل تیاری کرنے کے بعد روانگی کرنی ہے کہ کوئی ایسی خاص چیز نہ رہ جائے جو ساری راہ بچھتاوے کا باعث بنے۔
- ☆ گھر سے نکلنے کی پہلے گھر والوں کے قدموں میں گر کر ان سے اپنی غلطی کو تباہیوں کی معافی مانگ کر اور پورے گھر سے دعاؤں کی درخواست کر کے گھر سے نکلتا ہے۔ (خصوصاً والدین اور بہنوں سے)
- ☆ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ جس مقصد کے لئے جا رہا ہوں اس میں مجھے استقامت عطا کر اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اس میں کامیاب کر۔

- ☆ ISSB سنٹر میں داخل ہونے سے پہلے یہ تمام امور دعوامانگ کے داخل ہو کر اے سارے جہانوں کے مالک میرے گناہوں کو معاف کر اور ان پہ پردہ ڈال اور مجھے یہاں اور اس کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ اور ہر میدان میں محمد ﷺ کا سچا امتی، اچھا اور سچا پاکستانی، عظیم لیڈر، بہادر و نڈر، جذبے سے سرشار محب وطن، ایماندار و دیانت دار تقویٰ رکھنے والا اچھے ساتھ ساتھ کا اچھا شاگرد اور اچھے والدین کا اچھا بیٹا اور اچھے بہن بھائیوں کا ریکی، اچھا راجھی، بھائی بہن کا بت کرنا اور بنانا۔
- ☆ چہرے پہ مسکراہٹ ڈال کے داخل ہونا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ مجھے یہاں سے کامیاب و کامران نکالے گا۔
- ☆ داخل ہوتے ہی سنجیدگی اور اچھے اخلاق کا دامن پکڑ لینا ہے۔

You must be confident

- ☆ اپنی اور اپنے سامان کی چیننگ دینے کے بعد اندر داخل ہو جائیں اور پھر آپ کو ایک شخص کو دکھانے کے لئے ساتھ لے جائے گا۔ (یہاں پہ آپ سے موبائل کسی خاص نشانی کے بعد لے لیا جائے گا)
- ☆ اپنا سامان اٹھائیے اور اس کے پیچھے چل کر اپنے مطلوبہ کمرے میں چلے جائیے۔
- ☆ سامان رکھ کر Setting وغیرہ کر کے اپنے آپ کو Fresh اور خوش باش کر لیجئے۔ تاکہ آپ صحیح معنوں میں آفیسر لگو۔ اور پھر آپ کی اسی حلیہ میں کچھ لمحات کے بعد تصویر لی جائے گی۔ جو تینوں خسران کے پاس جائے گی۔
- ☆ اس کے بعد آپ کو ہال میں بلا لیا جائے گا اور آپ کے Original Documents آپ سے لے لئے جائیں گے۔
- ☆ پھر آپ کو وزن اور Height لینے کے لئے بھیج دیا جائے گا۔ اور اپنا یہ وزن اور Height آپ کو یاد رکھنی پڑے گی، کیونکہ یہ آپ سے Bio Data Form میں پوچھی جائے گی۔

☆ آخر میں آپ کی ایک تصویر لی جائے گی۔

☆ اسی موقع پر آپ سے Call Letter اور Book let (اگر آپ کو کال لیٹر کے ساتھ بھیجی گئی تو) واپس لے لی جائیں گی۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

تصویر

☆ اس موقع پر جو تصویر لی جاتی ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کیونکہ یہی تصویر ہمارے سلیکٹرز کے پاس جاتی ہے۔ ہماری ان سے ملاقات سے پہلے۔

☆ بالکل صاف ستھرا، نکلی کی ہوئی، اچھلی ڈرنگ، چہرے پہ مسکراہٹ اور ایسے خوش پوش لگو کہ وہ تینوں تصویر دیکھتے ہی

Impress ہو جائیں۔ Beacuse first impression is a last impression۔

☆ اس کے بعد Bio Data Form Filling کے لئے "جوہر ہال" بھیج دیا جائے گا۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Bio Data Forms Filling

☆ میں یہ 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 60% to 70% انٹر ویو میں Bio Data Form سے یا اس سے related ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ جو اس قوم اور اس force کا مستقبل ہو آپ کی سلیکشن میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ Bio Data Form کو خوبصورت اور دلکش کر کے رکھا جائے اور سوچ سمجھ کر fill کیا جائے تاکہ آپ پھر اس انٹر ویو میں آسانی سے جواب دے سکو۔

☆ Bio Data Form میں جو کچھ بھی رکھو پھر اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کرلو۔

☆ کیونکہ پھر انٹر ویو میں تھوڑے الفاظ ادھر ادھر کر کے یا پھر ایک چھوٹی سی کہانی باندھ کر آپ سے وہی سوال پوچھا جائے گا۔

☆ یہ نہ ہو پھر ایک جیسے سوال کا Bio Data Form میں جواب "گندم" ہو اور انٹر ویو میں "جو"

☆ اگر سچ لکھو گے اور سچ بولو گے تو خوش و خرم اور کامیاب رہو گے۔

☆ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں آپ سے ایک نہیں تین Bio Data Form پُر کروائیں جائیں گے، پہلا وہ خود fill

کروائیں گے اور دوسرا خود کرنا پڑے گا بہت کم وقت میں، اور پھر تیسرے کے لئے انتہائی مختصر سا نامہ دیا جائے گا۔

ذرا سوچیں کیوں؟؟؟----- (ذہن پر زور دیں)

دیے ہوئے ایک ایک فارم آپ کے تینوں سلیکٹرز کے پاس جائیں گی مگر-----

اگر پہلے Bio Data Form میں آپ نے اگر کچھ جھوٹ وغیرہ رکھ دیا تو پھر آپ جاننے ہو کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس لئے جھوٹ کی دوز بھی تھوڑی ہی ہوتی ہے۔ مطلب آپ جلد بازی میں دوسرا Bio Data Form پُر کرتے ہوئے وہ جھوٹ بولنا رکھنا بھول جائیں گے اور تیزی میں کچھ جو آپ کے دماغ میں نقش ہو گا وہ لکھ دیں۔ اگر دوسرے میں سے آپ نکل گئے تو پھر تیسرا فارم مکمل کرنے میں انتہائی مختصر وقت دیا جائے گا۔ تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔

اس طرح سے جھوٹ بھی پکڑا جائے گا اور اصلیت بھی سامنے آجائے گی۔

☆ اس لئے سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے چاہے وہ کام آپ سے آرام سے آہستہ سے کروایا جائے یا پھر تیزی سے۔ بس آپ میں خود اعتمادی ہونی چاہیے۔

☆ میں کیسے بتاؤں آپ کو، کیسے سمجھاؤں اور کیسے یقین دلاؤں آپ کو کہ آپ کی سلیکشن ISSB Board کے ہاتھ میں نہیں۔ بلکہ خدا اور پھر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو وہ سب دیکھا سمجھیں گے جیسا کہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اس لئے اچھا سمجھو، اچھا سوچو اور پھر اچھا رکھو اور اچھا بولو۔۔۔ یہی آپ کا بہترین کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔

☆ اہم ترین بات:

جوانی خوبیاں لکھو گے جو غالباً 5 لکھنی پڑتی ہیں اور جو باتیں نفسیاتی ٹیسٹ، Word association Test میں لکھو گے پھر انہیں G.T.O ٹاسکو میں اور انٹرویو میں Prove بھی کرو۔

☆ خامیاں ایسے رکھتی ہیں کہ خامیوں میں بھی خوبی کی جھلک نظر آئے۔

☆ اچھا سوچو اور اچھا لکھو۔

☆ کھری بات لکھو اور جھوٹ مت لکھو۔

☆ کامیابی آپ کو اپنے ہاتھ میں ہے۔

نوٹ: آپ سے ایک Event بھی لکھوایا جائے گا جو کہ وہ آپ کو دیں گے اور کچھ Events جو آتے ہیں وہ آپ کو ان ٹیسٹ میں ہی Provide ہو جائیں گے۔

2nd Day

Personality Assistentment / Innerly Personality Test

- ☆ ۱۔ جملے مکمل کرنا: (ہمیشہ پرسکون اور مطمئن رہنے کی کوشش کریں)
- ☆ جملے کا پہلا آدھا حصہ لکھا ہوگا جبکہ دوسرا آدھا حصہ ہم نے مکمل کرنا ہوگا۔
- ☆ مثال کے طور پر: وہ جب اس کا اس ہوتا ہے تو۔ اپنے سے زیادہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ E.g.
- ☆ چھ منٹس میں 26 فقرے مکمل کرنے ہوں گے۔
- ☆ اس کے ٹیسٹ ہو گئے اور وہ اس میں انگلش میں۔
- ☆ یہ 26 فقرے نہیں ہوتے بلکہ شخصیت کے پہلو ہوتے ہیں۔
- ☆ اپنی Writing Speed کو اچھا اور خوبصورت رکھنا ہے۔

Don't run away from the facts.

Be Straight forward & show encourage & braveness.

Your selection is not dependent upon just one sentence.

- ☆ اپنی ذات کی بات کم کرو۔
- ☆ مگر کے بعد ہمیشہ جملہ Negative ہوتا ہے تو بس Negative لکھو اور Sence تبدیل کرو۔
- ☆ E.g وہ ایماندار ہے۔ مگر کبھی کبھی چٹنی کر لیتا ہے۔۔۔
- ☆ آپ کو اس ٹیسٹ کی آگاہی کے بارے میں اس ٹیسٹ کے کچھ ٹیس چھوڑ رہا ہوں۔

☆☆☆☆☆☆

V.V Important in your selection process.

Words Association

Don't take any type of fear.

- ☆ اس Test میں الفاظ کے جملے بنانے ہوں گے۔
- ☆ آپ کے سامنے موجود ایک مکمل پر ایک لفظ حرف 10 سیکنڈ کے لئے آئے گا۔
- ☆ 10 سیکنڈ میں اس لفظ کو دیکھنا، اس پر حملہ سوچنا اور پھر اس جملے کو لکھنا ہوگا۔
- ☆ جس لفظ کو معنی نہیں آتا اسے صرف نمبر دے کر لکھ کر آگے چلے جائے۔ کیونکہ نوکس 100 الفاظ ہوں گے۔
- ☆ نام ضائع کرنے کے لئے وہ کچھ مشکل الفاظ دیتے ہیں۔ ان کو نمبر دو لکھو اور آگے چلے جاؤ۔
- ☆ نمبرنگ کا تسلسل نہیں بھولنا اور ترتیب وار لکھتے ہیں۔
- ☆ اپنی Writing Speed کو اچھا اور خوبصورت رکھنا ہے۔

Don't run away from the facts

Be straight forward, show you are brave, encouraged & countary lover.

Search good things in bad things E.g Snake....

Snake has shining skin.

Snake runs fast.

جتنے بھی words آسکتے ہیں وہ تمام کے تمام میں provide کر رہا ہوں۔

☆☆☆☆☆☆

Picture Story

☆ آپ کے سامنے موجود ایک سکرین پر تصویر کا ایک خاکہ آئے گا۔ آپ نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔

☆ ہر کہانی کا نام 3.5 منٹ ہوگا۔

☆ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو کس انداز سے سوچتے ہو اور آپ کا مشاہدہ کس قسم کا ہے۔

☆ آپ تصویر کے پہلو کو کس طرح دیکھتے ہو اور لکھتے ہو۔

☆ اسی سے آپ کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کس قسم کے بندے ہو اور کیسے سوچتے ہو اور آپ کے جذبات کیسے ہیں۔

☆ آپ لکھ کسی اور کے بارے میں ہوتے ہو مگر ظاہر خود کو کر رہے ہوتے ہو۔

☆ اس لیے اچھا سوچو اور اچھا لکھو۔

☆ بہادری ثابت کرو۔ اچھے جذبات والا، اچھا بیٹا، اچھا مسلمان و پاکستانی اور عظیم لیڈر ثابت کرو۔

☆ آپ کی آسانی کے لئے میں Picture story کے کچھ خاکے دے رہا ہوں تاکہ وہاں آپ کو اس قسم کے خاکے دیکھتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو۔

☆☆☆☆☆

Pointer Story

☆ ایک کہانی کے کچھ آغاز کے الفاظ لکھے ہوں گے۔ اس کہانی کو مکمل کرنا ہوگا۔

☆ اچھا لکھو اور تیز لکھو۔

☆ وہ پوری کہانی لکھ کر آپ اپنی شخصیت دکھا رہے ہوتے ہو۔

☆ کہانی جذبے سے سرشار اور Fear of Failure یا Fear of Death کا کوئی بھی پہلو نام کا بھی نہ ہو۔

☆ دیکھیے جب آپ کے دل میں کہیں سے خوف کی جھلکی نظر آئی تو مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک بزدل شخصیت کے مالک ہو تو پھر خود اپنے ضمیر سے انصاف کروائیے کہ کیا ایک بزدل شخص کیسے اس ملک کی حفاظت کرے گا۔ کیسے اس دہمی قوم کی پریشانیوں اور ان آفتوں میں کام آئے گا۔ اور کیسے اپنی قوم کا سہارا بنے گا۔

☆ میں آپ کو اس ٹیسٹ (Pointer Story) کا مقصد اور اہمیت کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اس کا اصل مدعا آپ کے

سامنے آجائے۔

"انٹرنیٹ": اتنی زبردست ٹیکنالوجی ہے کہ الفاظ نہیں، گھر بیٹھے دنیا کی اہم ترین معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ جو عام حالات میں حاصل کرنا ناممکن ہے۔

انٹرنیٹ علم کی دنیا کا ایک مندر ہے اور Current Affairs کا بھرپور خزانہ مگر جس شخص نے اسے برے انداز میں استعمال کیا ہوا تو اس نے اس کی برائیاں شروع کر دی ہیں۔ مختصراً آپ اس چیز (انٹرنیٹ) کو برا ثابت کرنے کی اور پھر خود کو ایک اچھا اور شریف انسان ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں گے، اس لئے یہ آپ پر ہے آپ اس کہانی کے آغاز کو کتنی اچھی سائیڈ لے کے جاتے ہو۔ آپ کی آسانی کے لئے میں Pointer Story کے کچھ خاکے دے رہا ہوں تاکہ وہاں آپ کو ان کو دیکھتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو۔

☆ ایک Candidate کے تین سلیکٹرز ہوتے ہیں۔ تاکہ اچھی طرح Candidate کو پرکھا جاسکے۔

1- نفسیاتی ماہر (Psychologist)

2- G.T.O (Group Testing Officer) جو آپ سے تمام ہاسکولے گا۔

Group Discussion & Planning Including

3- انٹرویو (ڈپٹی پریذیڈنٹ)

آپ کا صرف اور صرف انٹرویو لے گا۔

☆ Personality Tests نفسیاتی ماہرین کے پاس جائیں گے۔

جوان تمام ٹیسٹوں کی مدد سے آپ کا اندر جاننے کی بھرپور کوشش کریں گے۔

☆ آپ کے اپنے لکھے ہوئے کے ذریعے وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں نتیجہ نکالیں گے۔

☆ اس لئے کامیابی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔

☆ اچھا لکھنے کے لئے مندرجہ ذیل Tips کا خصوصی خیال رکھو۔

ان تمام ہاسکولے چاہے

Indoor ہوں جن میں

- ☆Bio Data Form
- ☆Personality Test
- ☆Words Association Test
- ☆Pointor Story & Pic Story

یا پھر Outdoor ہوں

- ☆Group Discussion
- ☆Group Planning
- ☆Prograssive Tasks
- ☆Sami Group Tasks
- ☆Commanding Tasks
- ☆Full Group Tasks

کی مکمل تفصیلات ایک Hall کے اندر Big Screen پر، SSB President، بھی آپ کو بڑے پیار سے سمجھا دے گا۔

☆☆☆☆☆☆

3rd Day

GTO Tasks

☆ خیال میں آکر ہر GTO اپنے 09 Candidates (نو) لے کر جائے گا۔ اور یہ آپ کا آخر تک Group رہے گا۔

اس ان سے ملنے کی پہلی ملاقات میں اچھے اخلاق سے ان کو Impress کرو۔ Beacuse first impression is a last impression.

☆ آپ کو ایک کمرے میں لے جائے گا اور Tasks کا سلسلہ شروع کروائیں گا۔

☆☆☆☆☆☆

Group Discussion

☆ ایک انگلش میں اور ایک اردو میں Discussion کے لئے Topic دیا جاتا ہے۔ (پہلے اردو کا دیا جاتا ہے)

☆ You must be confident.

☆ You must be Polite but brave.

☆ اپنا Topic بسم اللہ سے شروع کریں۔

☆ سوچ کچھ کے خوبصورت طریقے سے جذبے سے بھری اور بارعب آواز میں بولو۔ بہادری اور Planning نظر آئے۔

☆ اچھے اخلاق دوسروں کے لئے اچھا بولنا اور بھلا سوچنا ذمہ داری، شائستگی اور ملکی مفاد میں بولنا۔

میں سمجھتا ہوں اور شاید یہ میرا عقیدہ بھی ہے کہ جو فرد چاہے وہ کسی بھی کیونٹی سے کیوں نہ ہو۔ جب وہ دوسروں کے لئے اچھا سوچتا ہے۔ دوسروں کے کام آتا ہے۔ اس کے دل میں تمام نئی نوع انسان کے لئے اچھے اور قابل توہم عزت ہیں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں IISB ایک چھوٹا سا امتحان ہے وہ کسی بڑے امتحان میں بھی ضرور ہے گا۔

☆☆☆☆☆☆

Group Planning

☆ آپ کو ایک خاکہ دیا جائے گا اور پھر اس خاکے کو مد نظر رکھتے ہو آپ کو ایک Task دیا جائے گا جو کہ آپ پورے گروپ نے مل کر حل کرنا ہوگا۔

☆ آپ کو مکمل ہدایت دی جائے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کے لئے کیا Boundness ہے۔

3rd Day

GTO Tasks

☆ خیال میں آکر ہر GTO اپنے 09 Candidates (نو) لے کر جائے گا۔ اور یہ آپ کا آخر تک Group رہے گا۔

اس ان سے ملنے کی پہلی ملاقات میں اچھے اخلاق سے ان کو Impress کرو۔ Beacuse first impression is a last impression.

☆ آپ کو ایک کمرے میں لے جائے گا اور Tasks کا سلسلہ شروع کروائیں گا۔

☆☆☆☆☆☆

Group Discussion

☆ ایک انگلش میں اور ایک اردو میں Discussion کے لئے Topic دیا جاتا ہے۔ (پہلے اردو کا دیا جاتا ہے)

☆ You must be confident.

☆ You must be Polite but brave.

☆ اپنا Topic بسم اللہ سے شروع کریں۔

☆ سوچ کچھ کے خوبصورت طریقے سے جذبے سے بھری اور بارعب آواز میں بولو۔ بہادری اور Planning نظر آئے۔

☆ اچھے اخلاق دوسروں کے لئے اچھا بولنا اور بھلا سوچنا ذمہ داری، شائستگی اور ملکی مفاد میں بولنا۔

میں سمجھتا ہوں اور شاید یہ میرا عقیدہ بھی ہے کہ جو فرد چاہے وہ کسی بھی کیونٹی سے کیوں نہ ہو۔ جب وہ دوسروں کے لئے اچھا سوچتا ہے۔ دوسروں کے کام آتا ہے۔ اس کے دل میں تمام نئی نوع انسان کے لئے اچھے اور قابل توہم عزت ہیں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں ISSB ایک چھوٹا سا امتحان ہے وہ کسی بڑے امتحان میں بھی ضرور ہے گا۔

☆☆☆☆☆☆

Group Planning

☆ آپ کو ایک خاکہ دیا جائے گا اور پھر اس خاکے کو مد نظر رکھتے ہو آپ کو ایک Task دیا جائے گا جو کہ آپ پورے گروپ نے مل کر حل کرنا ہوگا۔

☆ آپ کو مکمل ہدایت دی جائے گی، آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کے لئے کیا Boundness ہے۔

- ☆ ان ہدایات کو مکمل طور پر غور سے سنا ہے اور پھر انہیں صحیح طریقے سے ذہن میں بٹھا دینا ہے تاکہ آپ کو GTO سے دوبارہ پوچھنے کی اڑمت نہ ہو۔ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تاکہ مکمل ٹاسک میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔
- ☆ اگر ایک بات سب کو بھول جاتی ہے مگر آپ نے GTO کی باتیں غور سے سنی تھیں۔ جب سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھیں گے۔۔۔ کہ یہ چٹائیں کیسے تھا۔ تو اگر آپ بتا دیتے ہو تو پھر خود سوچے GTO پر آپ کا کتنا اچھا Impression پڑے گا۔
- ☆ سب کے ساتھ مل کر کام کرنا اپنی الگ اور اکیلی دنیا بنا کر کام نہیں کرنا۔
- ☆ اس ٹاسک میں پہلی چیز چیک کی جاتی ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر کسی کام کو کیسے Plan کرتے ہو اور آگے بڑھتے ہو۔
- ☆ کمانڈر کی نشانی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔۔۔ سو اپنی اکیلی Calculation نہیں کرنی سب کو ساتھ ملاتا ہے۔
- ☆ یہاں پر آپ تین چیزیں چیک کی جائیں گی میرے خیال میں۔
- 1- آپ کتنے ذہین ہو۔
 - 2- آپ میں Planning ability کتنی ہے۔
 - 3- آپ سب کے ساتھ مل کر کیسے کام کرتے ہو۔
- ٹاسک کے دوران GTO کی طرف بالکل نہیں دیکھنا جب تک وہ خود سوچ رہا ہے اور اپنا کام جاری رکھتا ہے۔
- پورے Batch (تقریباً 150 Candidates) میں سے بمشکل دوپانے Planning Task مکمل ہوتا ہے۔ اس لئے پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی Confuse کسی بھی موقع پر۔
- آپ کی صرف اور صرف وہ خصوصیات دیکھی جارہی ہوتی ہیں جو میں بتا چکا ہوں۔
- ☆ Active ہو کر کام کریں۔ کچھ عقل کی اور سمجھداری کی باتیں کریں اور کام میں اپنی بھرپور مدد بھی دکھائیں۔
- ☆ اسکے بعد آپ کو ISSB Required Uniform جو کہ ISSB Form پر لکھا ہوتا ہے۔ وہ پہن کر GTO کو مقرر کردہ جگہ پر پہنچنا ہوگا۔ جو کہ آپ کو GTO بتائے گا۔
- آپ کو ISSB کا require یونیفارم پہن کر ایک گراؤنڈ میں لے جایا جائے گا۔ جہاں پر ایک کھلا میدان ہوگا۔ مختلف Tasks کی جگہیں بنی ہوں گی اور مختلف قسم کا ساز و سامان ہوگا جو آپ نے اس کے بعد آپ کو مندرجہ ذیل Tasks پر کام کرنا ہوں گے۔

Semi Group Task

آپ کا جو گروپ ہوگا جو غالباً 9 Candidates پر مشتمل ہوگا اسے تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی ہر 3 Candidates کو الگ الگ کام دیا جائے گا۔ اور پھر GTO خود پاس بیٹھ کر qualities دیکھے گا۔ کم Candidates ہونے کی وجہ سے دو سب کا آسانی سے پرکھے گا۔

Progressive Group Tasks

اس میں آپ کا مکمل گروپ (09 candidate) مل کر کام کریں گے۔ غالباً تین ٹاسک دیے جاتے ہیں یہاں۔

Commanding Task

آپ کو کمانڈر بنادیا جائے گا اور آپ کو چند ماتحت دے کر کوئی ٹاسک دیا جائے گا۔ جسے آپ کمانڈنگ کرتے ہوئے مکمل کروانا اور کرنا ہے۔

☆☆☆☆☆

Full Group Task

اس میں بھی آپ کا پورا گروپ مل کر کام کرے گا۔

فرق اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو English میں بولنا ہوگا۔ مطلب اس ٹاسک میں آپ دوران ٹاسک ایک دوسرے سے English میں بول چال کرنی ہوگی۔

☆ یہ تمام چاروں ٹاسک Basically ایک جیسی نوعیت کے ہوتے ہیں فرق صرف پرکھنے کا اور پھر آپ کی ذمہ داریوں اور ٹاسک میں آپ کی جگہ حیثیت کا فرق ہوتا ہے۔

☆ ان تمام ٹاسکوں میں سب سے پہلے GTO آپ کو مطلوبہ ٹاسک پر فارم کرنے والی جگہ لے کر جائے گا اور آپ کو مکمل اس ٹاسک کے بارے میں بتائے گا۔ آپ کو آپ کا مشن بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ پھر آپ کو fouls بتائے گا اور پھر واکت جس کے اندر آپ نے وہ کام ختم کرنا ہوگا۔

آپ کے لئے ضروری ہدایات۔

ان تمام ٹاسکوں کی آپ کی سلیکشن میں بہت اہمیت ہے۔

☆ اس لیے جب GTO ٹاسک کے بارے میں Brief کرے تو صحیح معنوں میں غور سے ایک ایک بات سنی ہے اور ذہن نشین

کرتی ہے۔

☆ ٹاسک شروع ہونے سے پہلے غور سے دیکھنا ہے کہ کون کون سا سامان کہاں کہاں رکھا ہے۔ اور پھر ٹاسک ختم ہونے کے فوراً بعد اسے ساتھیوں کو بلا کر اپنی اپنی جگہ پر رکھنا ہے۔ جب آپ کا GTO پر بہت ہی اچھا impression ہوگا۔

☆ کسی پر غصہ نہیں کرنا۔ جرات مندی دکھانی ہے مگر جذبات کنٹرول کر کے۔

☆ کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کو آگے جا کے محنت و لگن کے ساتھ کام کرنا ہے۔

☆ اپنے سے بہتر دوسروں کے لئے سوچنا ہے۔ یہ سوچو یہ سب میرے ہم وطن سلیکٹ ہو جائیں میری خیر ہے۔ مگر کام سب سے

اچھا اور آگے کرو۔
file C:\Documents and Settings\XPRES\3\Desktop\Graphic222.jpg not found.

☆ سب سے محبت سے پیش آؤ۔ اچھا اخلاق سب کے ساتھ رکھو۔ کوئی اچھا ہو یا برا آپ یہاں صرف سلیکٹ ہونے جاؤ گے سو اپنے کام سے کام رکھو۔

☆ Under Comanding بھی اچھے سے اچھا کام کرو۔ سب کے لئے بھلائی سوچو۔ سب کی خدمت کرو۔ سب کے ساتھ مدد کرو اور سخت محنت کرو اور اچھے اخلاق اور اچھے کام سے دوسروں کو اپنا گرویدہ بنالو۔

☆ جب دوسروں کے کام آؤ گے اور ان کے لئے اچھا کرو گے تو حقیقی دلی سکون ملے گا۔

☆ تاثرات مایوسی، پریشانی یا محکمن کے نہ ہوں بلکہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہو۔

☆ سنجیدگی اور خاموشی، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت کے وقت بولنا اور مشورہ دینا ہی دانشمندی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔

☆ ایسے ہی فضول مشورے دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔

☆ ہو سکے تو GTO کے brief کرنے کے فوراً بعد اس Task کا فوری plane سوچیں کہ کیسے اور کیا کیا چیزیں کہاں

کہاں استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس ٹاسک کو کرنا ہے اور پھر فوراً سب کو وہ منصوبہ کام شروع کرنے سے پہلے بتادیں آپ کا یہ کام کرنا جتنا GTO کو Impress کر دے گا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔

☆ کوشش کرنی ہے دوران ٹاسک ایک Valid type کا مشورہ جو اچھا ہو اگر دماغ میں آئے تو فوراً بتا دیتا ہے۔

☆ دوران کام GTO کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھنا بلکہ صرف اور صرف ساری توجہ و لگن و محنت اپنے ٹاسک پر رکھی ہے اگر

آپ GTO کی طرف بار بار دیکھو گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ GTO کو دکھا کر یہ کام کر رہے ہو۔

☆ اپنے کام میں مگن ہو غفلت مند، محنت، سب کو ساتھ ملا، جذبے اور بہادری کے ساتھ اور کمانڈنگ ملاحتیوں کو ثابت کرنے ہوئے

کام کرنا ہے۔

☆ Semi Group Task پہلے بھی ہو سکتا ہے Progressive Task کے اور بعد میں بھی تقریباً Semi بعد میں ہی ہوتا ہے۔ اکثر Progressive کے اور پھر Individual Obstacle پھر Commanding Task پھر Full Task پھر آخری انٹرویو۔

کمانڈنگ ٹاسک:

آپ کے پورے گروپ کے ہر Candidate کو باری باری کمانڈر بنایا جائے گا۔ ہر ایک کو اپنے اپنے نمبر پر کمانڈر بنایا جائے گا۔ اور پھر کمانڈر کو ایک ٹاسک دیا جائے گا۔ جو اس نے لڑکوں کو لے کر مکمل کرنا ہے۔ اس ٹاسک کا آغاز ایسے لیا ہوگا۔ پورا گروپ کھڑا ہوگا اور پہلے نمبر (According to chest No.) والے Candidate کو بلائے گا IGT اور گپ شپ شروع کر دے گا۔ اب میرے محبت وطن بھائی۔۔۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ بظاہر تو وہ آپ کو ٹاسک دکھانے کے لئے لے جا رہا ہوگا۔ جو کہ آپ نے ان Candidates سے پر قارم کرنا ہے مکمل کروانا ہے جو آپ کے under candidate کام کریں گے۔ مگر وہ آپ سے ساتھ میں گپ شپ کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے وہ گپ شپ نہیں ہوتی وہ ایک چھوٹا سا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے۔ اور IGT اتنا لمبا اور شفیق ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ وہ آپ کا دوست ہے اور آپ اس کی باتوں میں آ کے سب کچھ بھول جاؤ گے جو آپ نے Personal Test، Bio Data form اور Word Association میں جو بنانا کر لکھا ہوتا ہے۔ اور اس طرح آپ کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ اس لئے ذہن کو حاضر رکھنا ہے اور سمجھ داری کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پھر وہ کچھ کڑی باتیں بھی کر سکتا ہے اور Sexual question بھی پوچھ سکتا ہے۔ بالکل آپ کا دوست بن کر سو ہو شیاری دکھانی ہے وہاں۔ مختصر آپ کو کچھ خصوصی Tips دے دوں اور بقیہ روداد بھی۔

- 1- اس نے آپ کو جو کچھ بھی کہا یا پوچھا confuse کرنے کے لئے اس کو دماغ سے نکال کر باہر پھینک دینا ہے اور جب وہ آپ کے ٹاسک کے پاس لے جا کر آپ کو آپ کے ٹاسک کے بارے میں brief کرے گا اس کو مکمل دھیان سے سنا ہے۔
- 2- پہلی بار ہی غور سے سنا ہے تاکہ آپ کو اس سے دوبارہ نہ پوچھنا پڑے۔ اس طرح اس کی Briefing سے آپ کو مکمل محسوس آجائے گی۔ کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور آپ کے لئے کیا fouls ہیں اور آپ کیا fouls not اور اسی طرح آپ کہاں کہاں سامان رکھ سکتے ہیں۔

- 3- مکمل briefing کے بعد پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ "کوئی شک یا سوال" اگر آپ کچھ پوچھنا چاہو جس سے آپ کی

clearness نہ ہوئی ہو briefing کے دوران تو پھر آپ اس سے پوچھ سکتے ہو ورنہ کہہ دو No Sir Thanks۔

پھر وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کے پاس ایک منٹ بنا plane سوچ کر اپنے chest fellow کو بلا لو۔ تو آپ نے فوراً plane سوچا ہے کہ کیسے کیسے آپ نے ٹاسک کو کرنا ہے پھر فوراً بلند آواز میں اپنے Chest fellow کو بلا لیتا ہے۔

“Chest Fellows...Come Here”

☆ اب یہاں پر دو باتیں ابھی طرح ذہن نشین کر لیں۔

1- جب وہ آپ کو آپ کے گروپ سے بلا کر آپ کے ٹاسک کی طرف لے کر جائے گا تو گپ شپ کرنا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے بتا دیا اور آپ کو ادھر ادھر پھیر کر لے جائے گا۔ اب آپ سب کچھ بھول کر GTO کی باتوں میں آتے ہوئے یہ بھی بھول جاؤ گے۔ کہ آپ کا باقی گروپ کدھر کھڑا ہے۔ اور پھر بلانے سے پہلے آپ ایک بھوکے شکاری کی طرح اپنے گروپ کو ڈھونڈنے لگ جاؤ گے۔ میرے بھائی GTO کی باتوں میں ذرا کہتا ہے۔ اور گروپ کی جگہ بھی ذہن میں رکھتی ہے۔

2- Plane سوچ لینے کے بعد آپ نے GTO کو بتا دیا کہ Sir میں نے Plane سوچ لیا ہے اب میں کیا گروپ کا بلا سکتا ہوں۔

کیونکہ اس نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ایک منٹ میں plane سوچنا اور گروپ کا بلا کر ٹاسک شروع کرو اس لئے plane سوچ کر سیدھا fellows کو بلانا ہے۔

☆ جو Candidate آپ کے انٹرکام کریں گے ان کو سامان کے پاس ایک سیدھی لائن میں کھڑا کرنا ہے اور اسی طرح brief کرنا ہے جیسے کہ GTO نے کیا تھا تاکہ اچھا Impression پڑے GTO پر۔ اور پھر ساتھ میں وہ Plane بتاتا ہے جو آپ نے ایک منٹ میں سوچا تھا۔ مثال کے طور پر ایسے کہتا ہے۔

Chest fellows ترتیب وار ایک لائن میں سیدھے کھڑے ہو جائیں۔

بسم اللہ۔۔۔۔۔ Chest Fellows ہمیں یہ ٹاسک ملتا ہے ہم نے اس سامان کو وہاں (GTO بتائے گا جہاں لے کر جانا ہے) لے کر جانا ہے اور یہ یہ ہمارے fouls ہیں اور یہ یہ جگہیں ہمارے لئے bound نہیں ہیں۔ (اب اپنا plane بتاتا ہے)

(ہے) Chest fellows میرا یہ plane ہے۔ (پھر آخر میں پوچھو کوئی شک یا سوال) جیسے GTO نے پوچھا تھا۔ یہ آپ کا اچھا

impression دے گا۔

پھر یہ کہتے ہوئے کٹا سک کے دوران آپ مجھے اپنا مشورہ بھی دے سکتے ہیں کام شروع کر دینا۔

☆ سب سے آگے جائیں اور پھر fellows کو سامان کے ساتھ ساتھ لے کر چلیں اور پھر خود سب سے آخر میں سب کو نکال کر نکلیں۔

☆ سامان کی initial جگہ یاد رکھی ہے تاکہ کٹا سک ختم ہونے کے بعد آپ ویسے ہی اسی جگہ رکھ دیں۔

☆ کسی پر غصہ نہیں کرنا۔

☆ یہ نہیں کہ آپ کا غر ہو اور خود کوئی کام نہ کرو۔ بلکہ خود بھی کرنا ہے اور زبردست طریقے سے ٹھنڈی ہے۔

☆ کوئی مشورہ دے تو غور سے سننا ہے اور اچھا ہو تو عمل کرنا ہے اور اگر کوئی غلط مشورہ دے رہا ہے تو اسے یہ نہیں کہنا کہ آپ غلط ہو

بلکہ آپ ایسا کہو کہ I chest fellow اگر تم ایسا کریں گے تو آپ کے مشورہ سے زیادہ بہتر رہے گا۔

☆ غر ہو کر، بہادری سے کام کرنا ہے۔

☆ زیادہ شور نہیں کرنا بلکہ آپ کی آواز بارعب ہو۔ اونچی ہو اور جذبے سے بھرپور ہو۔

☆ اپنے کام محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے مقررہ وقت میں ٹاسک مکمل

ہو جائے۔

☆ Task کی پہلی briefing سے لے کر آخر تک آپ کی آواز میں clearness ہو۔ جذبہ ہو اور آپ ایک بہادر اور غر

آفیسر لگو۔

☆ کسی candidate کی کسی بھی بات پر غصہ یا confuse نہیں ہونا بلکہ تحمل اور زبردست انداز سے Handle کرنا ہے۔

☆ کام کرتے ہوئے GTO کی طرف نہیں دیکھنا۔

☆ یہ ٹاسک اگر آپ کا اچھا ہو تو آپ کی کامیابی کے بہت امکانات ہو جائیں گے۔

☆ میرا یہ ٹاسک بہت بہترین ہوا تھا۔ اس کا اظہار تمام candidates نے میرے ساتھ کیا تھا اور پھر GTO (ج) کے ہمارے گروپ

کے لئے دو تھے) نے بھی ایک دوسرے کی طرف چند اشارے ایسے کیے تھے جو ظاہر کر رہے تھے کہ اس لڑکے نے بہت اچھا ٹاسک کیا

ہے۔

☆ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں نے دماغ حاضر رکھتے ہوئے plane کے مطابق، بہادری کے ساتھ سب سے آگے

جاتے ہوئے سب کو پھر ساتھ لے کر چلتے ہوئے جذبہ دیتے ہوئے میں نے کام کیا تھا۔

ایک جگہ تو ہم سب گر گئے تھے اور سب سے زیادہ مجھے بہت چوٹ آئی تھی جس کے زخم کے نشان آج بھی میری ٹانگ پر ہیں اور سب کے پہلے اٹھ کر اپنی position پر جانے والا بھی میں ہی تھا۔ تاکہ میرے انڈر کام کرنے والوں کو جذبہ ملے۔

☆ اچھا کام انڈر وہ ہے جو دماغ سے سوچے اور دوسروں کو جذبہ دے۔

☆ اس میں ضروری نہیں آپ کا ٹاسک complete ہو وہ صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ

1- کام انڈرنگ صلاحیت کتنی ہے۔

2- کام انڈر بن کر کام کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔

3- کام انڈر بن کر آپ کے تہہ کیا ہوتے ہیں۔

4- آپ confuse تو نہیں ہیں۔

5- آپ کتنے بہادر اور خود اعتماد ہو۔

☆ اگر مقررہ وقت میں آپ کا ٹاسک complete ہو گیا تو Well & Good نہ ہوا تو confuse نہیں ہو اور پھر آخر

میں فوراً سامان کو اپنی جگہ پر لے جانا ہے۔

☆☆☆☆☆☆

انٹرویو Interview

☆ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ Inter-View مطلب آپ کے اندر کا حلیہ، اندر کا انسان جانتا ہے۔

☆ اچھی ٹافیاں پاس رکھو جو آپ کا گلہ خشک نہیں ہونے دیں گی۔ گلہ وہاں ویسے بھی خشک ہو جاتا ہے جب وہ سارے مناظر ذہن

میں ہوتے ہیں۔ مگر خدا را کہیں Heart fail نہ کر دینا کوئی بات نہیں مگر وہاں نہ کسی تو رب کے نشانوں میں کمی نہیں وہ اس سے بہتر

بڑھ کر تمہیں کسی اور ذریعے سے دے گا۔ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے کیونکہ مایوسی اور ناشکری کفر ہے۔

مگر عزم کا میابی کا رکھنا ہے 100 فی صد کامیابی۔۔۔

☆ اور میرے پیارے دوستو۔۔۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے دل میں ایک واحد مددگار کی طلب ہوگی جس کا نام رب العالمین ہے۔

کوئی تعویذ و ہاکم کام نہیں آئے گا۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا Facts بتا رہا ہوں۔

جب کسی معنوں میں

1- آپ کا تعین میرے سونے پر ہوگا۔

2- آپ کی اپنی تیاری زیر دست ہوگی۔

3- آپ کے لئے آپ کے والدین کی دعائیں ہمدن آپ کا ساتھ دیں گی تو خود بخود آپ کے اندر ایک بھرپور چٹان کا ساعزم کامیابی بن جائے گا۔ جو آپ کے اندر زیر دست Confidence پیدا کر دے گا۔ اور آپ انٹرویو میں بجائے پریشان ہونے کے بجائے اپنے ماتھے سے اپنے صاف کریں، آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہوں اور زبان کچھ اور کہہ رہی ہو۔ آپ کے اپنے ہاتھ جو آپ کے قابو میں ہوتے ہیں آپ کے اپنے پاؤں جو عمومی زندگی میں آپ کے تابع ہوتے ہیں آپ خود کو ان کا مالک کہلاتے ہو جہاں آپ کا جی چاہے آپ استعمال کرتے ہو مگر وہاں وہ اپنے کانپ رہے ہوں گے جیسے سردی میں ایک ننھی سی بلی کا نمٹتی ہے۔ اور بجائے کچھ بولیں۔ بجائے آپ اپنا آپ پیش کریں بجائے یہ ثابت کریں کہ You are best selection for force آپ اپنے ہاتھوں اور کا نمٹتی ناگوں کو چھپا رہے ہوں۔ آپ مکمل اعتماد کے ساتھ بالکل Relax ہو کر بیٹھیں۔

تھوڑا سا آپ کو Beginning of interview کا گرا کر آپ کے دماغ میں اگر پہلے سے ایک خاکہ سا بنا ہوگا جو کہ آپ کو confuse نہیں ہونے دے گا۔

جس کمرے میں آپ کا انٹرویو ہوگا اس کے دروازے کے ایک طرف ایک کرسی ہوگی اور اس کرسی پہ بیٹھ کر اپنے بلاوے کا انتظار کرنا ہوگا۔

بلایا اس طرح جائے گا کہ یا تو ایک Bell بجائی جائے گی یا پھر دروازے کی مانیٹ پر ایک Zero bulb ہوتا ہے وہ جلے گا۔ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دروازہ کھول کے اندر آ جائیں۔ (جب میں پہلی دفعہ انٹرویو دینے گیا تھا تو جب میں کرسی پہ بیٹھا تھا تو میرا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے میرے دل کو کوئی اپنے ہی ہاتھوں سے اوپر نیچے کر رہا ہو میرا دایاں ہاتھ تو کرسی کے ایک بازو پر تھا اور دوسرا مطلب پایاں میرے دل پہ تھا مایا لگ رہا تھا جیسے یہ نکل کر بھاگ ہی نہ جائے۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ایک Candidate نے دھیمی دھیمی آواز سے پوچھا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو، کچ تو یہ ہے مجھے اس کی آواز کی بالکل کچھ نہ آئی کہ انہوں نے کیا کہا، لگتا تھا کہ اس بیچارے کی روح بھی گلے کو آئی ہوئی ہے۔ اس کے بار بار ہو جانے والے خشک ہونٹ جنہیں اس کی زبان بار بار کرتی تھی اس کا واضح ثبوت تھے۔ اور وہ اپنی کرسی پہ اتنا سمٹ کر اور کرسی سے اتنا چمٹنا بیٹھا تھا کہ جیسے اسے 108 کتور کا وہ نزلہ یاد آ گیا ہو جو کبھی بالاکوٹ ماسٹر میں ہوا تھا۔)

میں بات کر رہا تھا کہ مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، سارا قصور اس کا بھی نہیں شاید میرے کانوں میں ایک

اپنا لڑکر چہرہ تھا۔ خیر مجھے اس کے اشارے سے سمجھ آئی کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو۔ اب کی بار زبان بلا نے کی زحمت میں نے بھی نہیں کی۔۔۔۔

بس میں نے بھی اشارے کا ہی سہارا لیا اور پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو دل پر رکھا پھر دوفٹ ہاتھ کو اوپر کیا اور پھر تقریباً اتنا ہی نیچے۔۔۔ مطلب میرا انکاد پر نیچے دھڑک رہا ہے۔

لگتا تھا ان جناب نے بھی یہی سوچنے کی قسم اٹھا رکھی ہے، ذرا خشک ہونٹوں کو کھینچ کر مسکراتے اور اشارے ہی سے بتایا ”جہاں! توں کیوں رونے لگیں۔۔۔ اسی وی تے تیرے نال دی گئے آں“

میرے ہم وطنوں یہ ایک اکی حقیقت ہے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ وہ مرحلہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ سب نے اس سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ جو آپ سے پہلے وہاں سے گزر کر گئے ان کے ساتھ ہوا ہے ویسا۔ اور جو آپ کے بعد آئیں گے ان کے ساتھ بھی ویسا ہوگا۔

یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ یہ صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، میں ہی Confuse ہوں، میرا دل ہی Jumping کر رہا ہے۔ میرے ہی ہونٹ خشک ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے احساس کمتری لیتی ہے خود اعتمادی کے بجائے اور پھر آپ صرف اور صرف خالی ہاتھ لوٹو گے بالکل خالی ہاتھ ہوئے اپنے سامان کے جو سات لے کر گئے تھے اور ہاں تھوڑا بہت کرایہ بھی مل جائے گا آپ کو۔۔۔۔

سکندر وہی ہے۔۔۔۔، جیت کر وہی آئے گا۔۔۔۔، کامیاب وہی لوٹے گا۔۔۔۔ جو ان سب پہ قابو پالے مان سب کو برداشت کرے۔ ان ساری activities کے خلاف اعلان جنگ کرے جو اس کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گی اور اس کو خود اعتمادی نہیں حاصل ہونے دیں گی۔ جس نے بھی شکندی سے، بہادری سے ان چیزوں پر قابو پایا۔۔۔۔ میں خدا کے فضل و کرم سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ Recommendation Letter اپنے ہاتھوں میں گھر لے کر آئے گا۔

اس کے لئے ضروری ہے کہ

1۔ آپ کو خدا کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہو، صرف اسی کی بڑھائی ہو، ذہن میں صرف اسی کو اپنا مددگار و حاجت روا و مشکل کشا سمجھا جائے، صرف اسی کو رازق سمجھا جائے، ماسی کو اپنا مالک سمجھا جائے۔

اس کا میں فائدہ بتاتا ہوں آپ کو۔۔۔۔ جو اس کو اپنا مددگار سمجھتا ہے وہ کبھی اس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جو کوئی بھی اس رب کو اپنا مددگار و حاجت روا سمجھے گا تو پھر اس کے دماغ سے سفارش والا مطلب نکل جائے گا کہ میری سفارش نہیں شاید میں نہ سلیکٹ ہوں (یہ خیال

احساس کمتری لاسکتا ہے) کمیری سفارش نہیں مگر جب نظر کائنات کے مالک پہ ہوگی تو خدا کی قسم آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اور کامیاب
لوگوں کے آپ۔

2- آپ کی تیاری بھی بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ خدا کی شان ہے کہ وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اگر کوئی دوسرا آپ سے
زیادہ محنت کر کے گیا ہوا ہو، پھر یاد رکھیے گا میرے سونہنے رب کی صفت اوصاف کرنا ہے نہ کہ انصافی کرنا، پھر وہ اس کا حق اسے دے گا
جو اس حق Recommendation letter کے قابل ہوگا۔

3- والدین کی دعائیں ہر وقت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنی فرمانبرداری سے ان کا دل خوش
کریں۔ تاکہ ہر دعا ان کے دل سے نکلے اور آپ آسمان کی بلند یوں کو چھوئے نظر آؤ۔

اب آپ کو میں انٹرویو کی کچھ خاص Tips دینے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ میری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ خدا کی ذات پر
مکمل بھروسے کا نہ ہونا اور کسی معنوں میں تیاری کر کے نہ جانا تھا۔ اس کی تفصیل آخر میں بتاؤں گا۔

اب کچھ Tips پوانٹوں کی صورت میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیں اور آپ کامیاب ہو کر میرے سونہنے وطن کی دلنشین
پاک آرمی میں جا کر اس وطن کی قوم کی حفاظت کریں اور اس ملک کا نام روشن کریں تاکہ میرے دل کو بھی تسکین ملے کہ جو میرا مقصد تھا وہ
میرے ہاتھوں نہ سبکی کسی اور کے ہاتھوں تو پورا ہوا۔

1- دائیں ہاتھ سے جذبے کے ساتھ دروازہ کھولیں اور اندر داخل ہونے سے پہلے ڈپٹی پریذیڈنٹ (یہ آپ کو انٹرویو لے گا) کو
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہادری کے ساتھ پوچھیں May I come in sir?
جب تک Yes نہ کہے اندر نہیں جانا اور اسی حالت میں وہیں کھڑے رہتا ہے۔

یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو کہ شاید نہ تو آپ کسی بھی کتاب سے، نہ ہی کسی فوٹس سے اور نہ ہی کسی نامور اکیڈمی سے۔۔۔ وہ یہ
کہ بعض اوقات (میں کہہ رہا ہوں بعض اوقات نہ کہ اکثر، مطلب بہت کم) ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہو May I come in
sir تو وہ انٹرویو لینے والا Dupty President آپ کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور آپ سمجھتے ہو کہ شاید میں آواز میں بولا
ہوں کہ اس نے میرے آواز نہیں سنی اور آپ دوبارہ کہہ دیتے ہو May I come in sir تو پھر اس نے یہ ٹھان لی ہوتی ہے کہ بیٹا
جی! اب تمہیں گھر ہی come in کروانا ہے۔ کیونکہ میرے خیال میں اس سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ (1) آپ احساس کمتری
کا شکار ہو (2) آپ جلد باز ہو۔ اور ان دونوں شخصیات کی آرمی میں کوئی جگہ نہیں۔

اس لئے بعض اوقات وہ آپ کی شخصیت کو پرکھنے کے لئے ڈپٹی پریذیڈنٹ کچھ لمحے جواب نہیں دیتا۔ میں نے تقریباً 30 سیکنڈ ڈپٹی

پریذینٹ کے جواب کا انتظار کیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں دوبارہ پوچھوں لیکن پتا نہیں ہمت ہی نہیں جو مجھے بعد میں Research کرتے ہوئے پتہ چلا کہ وہ میرا Positive Point تھا۔

پھر 30 منٹ کے بعد ڈپٹی پریذینٹ نے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا بلال صفر۔۔۔! بیٹا آ جاؤ

آپ کو یہ مشورہ ہو گا میرا کہ پہلے ہی اتنی Bold، مصفاائی اور سلجھی دکھری آواز میں کہیے گا May I come in sir کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کو آواز پہنچ چکی ہے۔

2- جب ڈپٹی پریذینٹ آپ کو کہہ دے کہ Yes تو جواب میں کہنا ہے Thank You sir اور اندر داخل ہو جانا ہے۔

3- اندر داخل ہوتے ہی دروازہ ہاتھ پیچھے کر کے صحیح طریقے کے ساتھ بند کرنا ہے۔ نہ اتنا آہستہ بند کرنا ہے کہ آپ کے ڈپٹی پریذینٹ کو لگد ہا ہو کہ آپ اندر آنے سے ڈر رہے ہو اور نہ اتنے زور و شور سے کہ ڈپٹی پریذینٹ ہی ڈر جائے۔

4- دروازہ بند کرتے وقت اس بات کو خاص خیال رکھا جائے کہ آپ مکمل اندر داخل ہو چکے ہیں ایسا نہ ہو کہ دروازہ بند کرتے وقت اس کا نیچے والا حصہ آپ کے ٹخنوں سے ٹکرائے۔ بعض اوقات confusion میں ایسا ہو جاتا ہے۔

5- دروازہ بند کرنے کے بعد اسے کہنا ہے۔۔۔ السلام علیکم

6- اور کرسی کے پاس جا کر کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر وہ آپ سے ہاتھ ملانے کے لئے ہاتھ آگے بڑھائے تو فوراً اس سے ہاتھ ملانا ہے۔

آپ کے ہاتھ میں ایسی کمزوری نہ ہو کہ لگے آپ نے اپنا ہاتھ اپنے جسم سے کاٹ کر اس کے حوالے کر دیا اور یا پھر اس کو دیتے ہوئے اپنا ملاتے ہوئے آپ کو اس بات کی امید نہ ہو کہ اب مجھے میرا ہاتھ واپس ملے گا۔

نہیں بالکل بھی نہیں۔۔۔ اسے پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے کسی شیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے اس سے آپ کی بہادری و قوت خود اعتمادی اور ہمت و جذبہ ظاہر ہوگا۔

اور اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی اپنا ہاتھ چھوڑ کر واپس لے آنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ ملا کر بیٹھ بھی جائے اور آپ کا ہاتھ وہیں لٹکا رہے۔ اور وہ منظر پیش کریں جب کسی سچے عاشق کی مجبور محبوبہ اسے صدیوں بعد ملی ہو اور عاشق کو جاتے جاتے آنسوؤں میں ہاتھ ملا رہی ہو اور عاشق ساکتہ جاگے اور اس لمحے پر یقین ہی نہ کرے۔

نہیں فوراً Active ہو کر Bold ہو کر ہاتھ پیچھے کرنا ہے۔

7- ہاتھ ملانے کے بعد کرسی کے پاس کھڑا ہو جانا ہے جو بالکل آپ کے قریب ہوگی۔

8- جونہی وہ کہے بیٹھ جائیں / Have a seat please تو Thank You کہہ کر بیٹھ جانا ہے۔

9- پوری کرسی استعمال کریں۔ نہ کہ اس کرسی کے فرنٹ والے حصے پر ہو کہ بیٹھ جائیں۔

10- بالکل سیدھا اور مکمل طریقے سے بیٹھو اور اپنی کہنیوں کو کرسی کے بازوؤں پر رکھتے ہوئے ہاتھوں کو ملا لو۔

11- ہلنے جھکنے، ہاتھوں یا ٹانگوں کو ہلانے، ہونٹوں پر بار بار زبان مارنے اور آنکھیں بار بار بند کرنے سے مکمل گریز کریں اور ہاں ماتھے پہ سلوٹس نہیں لانی۔

12- آپ سے پوچھنا شروع کر دے گا۔ جو پوچھے اس کا مکمل جواب دو مثال کے طور پر۔

file C:\Documents and Settings\XP\PRESP3\Desktop\...
not found.

آپ کہتے ہو بلال۔۔۔ مگر آپ کا پورا نام جو آپ کے شناختی کارڈ پر ہے۔ DMC پر ہے وہ بلال صفدر ہے۔ تو پھر آپ کا

جواب ادھورا ہوگا جو کہ اچھا Impression نہیں دے گا۔ اس لئے جواب پورا ہونا چاہیے۔ بلال صفدر

اسی طرح اگر وہ آپ سے FA/Fsc کے یا کسی بھی کلاس کے نمبر پوچھتا ہے تو صرف نمبر بتانے ہیں نہ کہ نمبر کی جگہ

Percentage آپ بتادیں یا پھر دونوں۔ جب Percentage پوچھتے تو پھر صرف وہ بتاؤ نہ کہ نمبر اس طرح آپ کا جواب پورا ہوگا۔

☆ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو Bio Data Form میں fill کر دیا گیا تھا وہ ڈپٹی پریذیڈنٹ کے سامنے پڑا ہوگا۔

اس لئے جو کچھ Bio Data Form میں لکھا ہے وہی منہ سے بھی بولنا ہے دونوں جگہ کا استعمال کیا گیا تو آپ کا کام نہیں ہو گے۔

13- اس کے علاوہ آپ کے Bio Data Form کو دیکھتے ہوئے وہ آپ سے بہت کچھ پوچھے گا۔ بالکل تحمل سے صبر سے جواب دینا ہے۔

14- پھر آپ سے وہ کچھ اکیڈمک سوالات پوچھے گا اور پھر جنرل مانج کے۔ میں جنرل مانج کا، مطالعہ پاکستان کا، اصلاحیات اور کچھ اکیڈمک کے بہترین نوٹس Provide کر رہا ہوں۔ جو اس حصے کے آخر میں آپ کو ملیں گے۔

جو آگے آپ کو اس کا جواب بہادری کے ساتھ بالکل صاف آواز میں بولنا ہے اور اگر نہیں آتا تو کچھ لمحے کے لئے سوچ کر

sorry Sir میں جواب دیں۔

اب آپ کے دماغ میں ہو کہ بلال صدر نے کہا تھا سوچنا ہے اور آپ سوچی ہی بیٹھ جاؤ۔۔۔

میرے بھائی اتنا ہی سوچ میں نہ پڑ جائے گا کہ ایسا لگے کہ آپ کشمیر کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو اور پھر مجبوراً ڈپٹی پریذیڈنٹ کو بولنا پڑ جائے۔

اس لئے وہاں ہوشیاری اور نگہ بندی ہے۔۔۔ بس نہیں آتا تو کچھ لکھات سوچ کر جواب دیں Sorry Sir

15۔ کچھ سوالات آپ کے مشکل ہوتے ہیں کہ آپ جواب نہیں دے پاتے۔ وہ صرف اور صرف آپ کو confuse کرنے کے لئے کہ جب آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ کتنی در دلی اور دکھی پن میں جاتے ہو۔ اگر آپ نہ پریشان ہوئے۔۔۔ آپ سے اس سے مشکل۔۔۔ پھر اس سے مشکل پوچھا جائے گا۔۔۔ سو اس سے پریشان یا confuse ہوئے تو میرا من دکھی ہوگا۔

16۔ مثال کے طور پر: وہ پوچھتا ہے۔۔۔

بتاؤ امریکہ میں کتنے قصبے ہیں امریکہ کا کتنا قصبہ ہے؟

اب سوچنے کی بات ہے ہمیں اتنا نہیں پتہ کہ پاکستان کے کتنے قصبے ہیں تو امریکہ کا کیا پتہ ہوگا۔

ان کو پتہ ہوتا ہے کہ candidate اس کا جواب نہیں دے سکتا مگر confuse کرنے کے لئے پوچھتے ہیں۔

17۔ میرا خیال ہے اگر آپ وہاں ہمت ہار گئے تو پھر آسان سوالات کے جوابات جو آپ کو آتے ہیں وہ بھی confusion کی وجہ سے بھول جائیں گے اور پھر بعد میں آپ کو بچھڑتا دے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔

18۔ وہ آپ سے پھر کچھ Sexual Question پوچھے گا جن کا جواب آپ بالکل غلط برداشت کے ساتھ اور Positive

Sence میں دیں۔ اس قسم کے کچھ سوالات میں ایک page پہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہاں آپ کو اس قسم کے سوالات کا

confidence اور جڑ بے کے ساتھ جواب دے سکو اور وقت سے پہلے آپ کے پاس ایک positive اور

impressive جواب موجود ہو۔

19۔ چہرے پہ مسکراہٹ بچھاتے ہوئے اندر داخل ہوں اور مسکراہٹ بچھاتے واپس جائیں۔

20۔ بالکل صاف آواز، ذرا اونچی آواز اور Boldness کے ساتھ جواب دیں۔ اور اس سے پہلے اس کے سوالات دہرا لیں۔

سین۔

21۔ آخر میں یاد دہان میں وہ آپ سے ضرور پوچھے گا۔

ا۔ آرمی میں یا کسی فورس میں کیوں آنا چاہتے ہو۔

۲۔ نہ سلیکٹ ہوئے تو کیا کرو گے۔

غصہ آتا ہے۔

جھوٹ بولتے ہو۔۔ وغیرہ وغیرہ

ان کے جوابات زمین میں لکھ کے چانا اور اس بات کو اُن حقیقت سمجھ کر زمین میں ڈال دیں کہ ہر شخص کو غصہ آتا ہے اور جسے غصہ نہیں آتا وہ انسان ہی نہیں۔۔۔ چاہے۔۔۔ سو وہاں یہ نہ کہہ دینا کہ نہیں۔۔۔ نہیں۔۔۔ مجھے تو غصہ نہیں آتا۔

22۔ آخر میں وہ آپ کو لے گا

Ok wish you best of luck. آپ نے Thank You کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اگر الوداعی ہاتھ

ملائے تو ملا کر خدا حافظ کہہ کر باہر آ جانا ہے۔

23۔ دروازہ آرام سے کھولنا ہے اور پھر اس طرح آرام سے بند کر کے جانا ہے۔

میں نے اتنا کچھ انٹرویو میں اس لئے لکھ ڈالا کہ یہ آپ کی سلیکشن میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔۔۔۔۔

اور ISSB میں انٹرویو کی بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ اب وہ آپ کی بول چال آپ کا Structure آپ کا attitude اور آپ کا manners اور اس کے علاوہ بہت کچھ براہ راست پینچہ کر چک کر رہے ہیں۔

**** اور میری ناکامی کی تین وجوہات میں سے دو وجوہات انٹرویو میں تھیں

اس کی تفصیل آخری صفحہ پر لکھ دوں گا۔۔۔ مگر صرف اتنا بتا دوں کہ میں نے Written Test میں جو لکھا تھا انٹرویو میں اس کے برعکس بول گیا۔

مختصراً۔۔۔ جتنے اچھے طریقے سے ہو سکے انٹرویو کو دیں بالکل صاف ستھرے کپڑے پہن کر جامی اور اللہ کے لئے بالکل سنبھے ہوئے لگو بلکہ Decent سے۔۔۔ ایسے بالکل نہیں کہ آپ شو بہ لگو اور ایسے بھی نہیں کہ آپ مفلس لگو۔

اور بابا۔۔۔ یہ رفوغم وغیرہ جوش سے نہیں ہوش سے لگاتا۔۔۔ میں تو کہوں گا ایسے Decent! کپڑے اور جوتے پہن کر جائیں جو کہ دو چار بار آپ پہلے بھی یا زیادہ بار آپ پہن چکے ہوں تاکہ وہاں پہنتے ہوئے آپ کو کچھ عجیب سا نہ لگے۔

اگر آپ confidence رہے، bold رہے، Decent رہے، اچھی تیاری اور والدین کی دعائیں لے کے مجھے۔ ملک قوم کے لئے اچھے جذبے لے کر گئے تو انشا اللہ مجھاس چٹان کا ساقین ہے کہ آپ کامیابی اپنے ہاتھ میں لے کر آؤ گے۔

نوٹ: میں تمام انٹرویو سے منسلک جنرل مانج، مطالعہ پاکستان، جنرل اسلامات نوٹس اور کچھ کنڈک نوٹس کے ساتھ ساتھ آب کوہ

تمام مواد سے رہا ہوں جو آپ کو انٹرویو میں زیر دست مدد فراہم کرے گا جو آپ کی کامیابی کا اولین باعث بنے گا۔

☆☆☆☆☆

Conclusion

اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر جائیں ISSB دینے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آرمی کا رزق آپ کے حصے میں ہے تو آپ کو ضرور آرمی یا کسی دوسری فورس، ایئر فورس، نیوی فورس میں آپ کا جانا ہو گا اور یہ میرا ایمان ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ یہ ISSB لینے والے بھی تو صرف اور صرف اللہ کے محتاج ہوتے ہیں ورنہ اگر خدا کی مدد و نصرت اگر نہ ہو تو اس آرمی کا نام و نشان نہ رہے۔ اس لئے ایک عقلمند اس ہستی کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑے گا جس کے قبضے میں صرف ISSB ہی نہیں بلکہ ساری کائنات اور پھر اس کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔

جس بندے کا رابطہ رابطہ ڈائریکٹ میرے سامنے رہے گا جس کے ساتھ ہو گا تو وہ کبھی اپنے محبوب بندے کو مایوس نہیں کرے گا۔ بلکہ اپنے بندے کے بارے میں وہ فیصلہ کرے گا جو اس کے لئے بہترین ہو گا۔ اب آپ یہ سمجھو کہ یہ صرف مولوی مائپ باتیں ہیں۔ تو بیکٹ سمجھو۔ مگر مجھے خوشی ہو گی اگر آپ کو یہ لگو کہ یہ ایک پتھر پہ لکیری طرح ایک اہل حقیقت ہے۔ جس حقیقت کے بغیر زندگی میں کوئی چارہ نہیں۔

ISSB جانے سے پہلے میں نے کافی کوشش کی کہ ISSB کے بارے میں جتنی بھی معلومات ملیں میں حاصل کروں کیونکہ میرا خواب تھا آرمی جو شاید میرے بچنے سے تھا۔ جب میرے گرانڈ ماموں مجھے دیکھ کر کہہ رہے تھے ”بیٹا تم نے آرمی میں جانا ہے“ Army needs you، اس وقت وہ کرٹل تھے۔ مجھے Fsc کے بعد کا پلان آرمی کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ بن جانے، بن پر کھانا بن کسی خاص تیاری کے مجھے 100% یقین تھا اور میں confident تھا کہ میں آرمی میں جانا ہے تو صرف اور صرف آرمی میں۔ اور پھر مجھ سے زیادہ میرے والد محترم کو شوق تھا کہ میں آرمی میں جاؤں۔

اس شوق و جذبہ کو رکھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے میں نے 2nd Year کے Exam کے فوراً بعد رزٹ سے پہلے

Surety Certificate کی میں پر بن گھر میں بتائے اپلائی کر دیا۔

124 PMA Long Course میں۔ جس دن میرا Initial Test تھا اس سے ایک دو پہلے والدین سے اجازت لی کہ کل راولپنڈی میرا NTS کا ٹیسٹ ہے۔ اب یہ جھوٹ اس لئے تھا کہ میرے ابو کو بہت شوق تھا کہ میں آرمی میں جاؤں مگر مجھے ڈر تھا کہ اگر میں پاس نہ ہوں گا تو شاید ابو جان کو بہت دکھ پہنچے گا اس لئے مجھ سے بھی نہیں بتانا چاہیے۔ خیر ایک کزن کے ہاں ٹیبلٹس آف

ڈینس میں گمراہ بھی ادھر ادھر ہی رکھا کیونکہ اس نے پھر گھبراتا دینا تھا کہ آرمی ٹیسٹ دینے آیا ہے مختصر ارب کا شکر کہ اس نے کامیاب کیا اور جیل سے نکل دے کہ گھر آیا۔ اس کامیابی کی خوشی جب گھر سنا تو ان کی آنکھوں میں چمک کی عروج کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔

مختصر ارب ISSB کی کال آئی تو بن تیاری کے صرف Enjoyment کے لئے گیا اور پرکھنے کے وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس کے بعد میرے پاس ایک اور چانس بھی ہے اور یہ بات میں نے ڈپٹی پریذیڈنٹ کے منہ پر بھی کہنے کی ایک ناکام سی کوشش کر دی تھی۔ مختصر ارب نسبت ہی کامیاب ہونے کی نہیں تھی تو کیسے ہو پاتا۔

مگر اس کے بعد میں نے معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں میں ہر اس شخص کے پاس جاتا جو چاہے کامیاب لوٹا ہو یا ناکام، کیونکہ کامیاب فرد سے مجھے خود اعتمادی اور تگ مٹی ملی تھی اور ناکام سے غلطیوں پہ قابو پانے اور آگے نکلنے کا جذبہ۔ میں بہت سے آرمی آفیسرز سے بھی ملا چاہے وہ فیل کی تھے یا آؤٹ آف فیل کی تاکہ میں جان سکوں ISSB کیا ہے اور کوشش کی کہ اس پہ حلائی رہوں۔ مختصر ارب والدین کے ساتھ میں جس سے بھی ملا خاص کر جن جن آرمی آفیسرز کو سب نے کہا جتنا جذبہ ہے اس ملک قوم کی بھلائی کا اور آرمی سے چاہت کا تو تم کبھی ناکام نہیں لوٹ سکتے۔

دعائیں لے کر گھر سے رخصت ہوا، تماشٹ ایچھے ہوئے اور اب میں ڈائریکٹ اپنی غلطیوں پہ جانا چاہتا ہوں۔ ایک اور بات آپ کی نظر کہ جو شخص ISSB میں صرف دن پورے کر کے آتا ہے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس وجہ کی بناء پر کامیابی نہیں حاصل کر سکا مگر جو شخص ISSB دے کے آتا ہے اور پھر بد قسمتی سے ناکام ہو جائے تو اس معلوم ہوتا ہے کہ کن غلطیوں نے اس اپنی منزل سے دور رکھا۔

میں نے پہلے بھی شاید کہیں لکھا تھا کہ مجھے اپنی تین اہم غلطیاں لگیں جو مجھے میرے بچپن کے خواب سے کوسوں دور لے گئیں۔

1- Group Discussion اور خاص کر سائیکلو جسٹ کے سامنے میری پرفارمنس بہت زبردست تھی بس خدا کے احسان اور والدین کی دعاؤں سے بہت اچھا بول گیا۔ پھر میرا کانڈنگ ناسک بہت اچھا ہوا۔ میں بہت مطمئن تھا اور پھر GTO نے مجھے چند باتیں ایسی کہہ دی تھیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں تو گیا سلیکٹ ہو گیا۔ اور پھر مجھے میرے Chest Fellow مجھے اپ پلے جا رہے تھے حتی کہ جہاں بھی ہمارا ناسک پھرتا تو GTO کہتا Chest No. 11 کو آگے کرو۔ بس مجھے مکمل یقین تھا اور میرے فیلوز بھی مجھے یہی کہتے کہ یار تم تو پار ہو۔ بس اس چیز نے مجھے Final Group Task میں تھوڑا غافل بنا دیا۔ جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ میں اب سنجیدہ نہیں ہوں حالانکہ مجھے خوشی نے غافل بنا دیا تھا۔ کیونکہ مجھے کامیابی بہت قریب نظر آ رہی تھی اور یہ اس خواب کی تعبیر

ہونے جارہی تھی جو میں نے ہی نہیں بلکہ میرے ابو جان نے بھی میرے بچپن سے ہی سجا رکھا تھا۔ مگر میرے ظاہری رویے سے ایسے لگا کہ شاید میں کامیابی deserve نہیں کرتا۔ یہ میری ناکامی کا سب سے بڑا سبب تھا۔

اصل میں میرے ساتھ ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا جب میں نے راولپنڈی initial interview دیا تھا بس انٹرویو نے نہ کوئی سوال پوچھا نہ کچھ صرف اس نے اور ساتھ ایک سائیکالوجسٹ بیٹھی تھی دو چار باتیں کی اور کہا بیٹا I am Selecting You جب رزلٹ سنایا گیا تو آہی میں کامیاب تھا۔ اسی طرح یہاں بھی میں GTO کے الفاظ کو سوار کر گیا۔ سو آپ سے التجا ہوگی کہ کسی بھی مقام پر over confident نہیں ہونا ورنہ ناکامی خطر ہوگی۔

2- میں نے نفسیاتی ٹیسٹ میں لکھا تھا کہ میں اس ملک و قوم کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں حتیٰ کہ جان تک نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ جب انٹرویو نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ کو ریٹنگ کے دوران کہا جائے وارمگی کتنا تو کیا کتنا اؤگے تو میں جواب دیتا ہوں ”نہیں سر کبھی نہیں، میں نے شوق سے بلکہ بہت شوق سے رکھی ہے۔ سو میں نہیں کتنا اؤں گا۔ انٹرویو نے کہا بیٹا سوچ لو تو میرا جواب تھا ”سر میں جو بولتا ہوں سوچ کے بولتا ہوں“

میرا جذبہ تو اس ملک و قوم کے لئے سب کچھ نچھاور کرنے کا تھا اور ہمارے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر میرے جسم میں صرف ایک خون کا قطرہ ہوا اور وہ میرے اس ملک و قوم کو چاہیے ہوا تو وہ بھی میں اس ملک کے نام کروں گا اس کا اندازہ شاید آپ کو میری لکھی ایک نظم سے ہو جائے بلکہ میں اس نظم کو ان صفحات میں شامل کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے جذبات کی بھی ترجمانی کرے۔ مگر انٹرویو کے سامنے میری زبان پھسل گئی اور ناکامی کا باعث بن گئی۔

3 انہوں نے (انٹرویو نے) پوچھا کہ کیا آپ جھوٹ بولتے ہو اور یہ سوال تقریباً سب سے پوچھا جاتا ہے۔ میں نے جواب میں نہیں کبھی نہیں مجھے بہت نفرت ہے جھوٹ سے۔ ساتھ ہی انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو غصہ آتا ہے؟ تو میری زبان پہ وہی نہیں والی رٹ تھی۔ نہیں مجھے غصہ نہیں آتا حالانکہ دنیا میں کوئی شخص نہیں جسے غصہ نہ آتا ہو۔ اور مجھے بھی آتا ہے۔ شاید میری سب سے بڑی کمزوری مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ مگر زبان نے ساتھ نہ دیا بلکہ یہ کہوں کہ سوچ کے نہ بول سکا۔

یہ تو اب اس حقیقت ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے انسان کو لازماً غصہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے ایمانداری اور دیانت داری بہت اچھی لگتی ہے۔ اور میری خواہش رہتی ہے کہ میرے وطن کا ہر فرد سچا کھرا اور مخلص ہو، دوسروں کے کام آنے والا ہو، ایماندار ہو، مگر جب میرے سامنے کوئی بے ایمانی کرے یا مجھے چکر کرتا نظر آئے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ سوچ بولنے کے ساتھ ساتھ دماغ کو حاضر رکھ کے جواب دینا آپ کو پیغام ہے۔

بحر حال میری زندگی کی پہلی اور سب سے بڑی ناکامی تھی جس نے میرے خوابوں کو مسمار کیا۔ مگر میرے بھائی اچھا افسردہ ہے جو دماغ سے سوچے چار دوسروں کو جز بدے۔ جبکہ سپاہی دماغ سے نہیں دل سے سوچتا ہے۔

اس کے بعد پھر میری خواہش بنی کہ میرے وطن کا ہر وہ مجاہد۔۔۔ وہ محب وطن جو فورسز کو جان کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ میں اسے آگاہی دوں گا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسا آرمی میرا ایک خواب تھا اسی طرح باقی جانے والوں کا ایک بحر پور عزم اور خواب ہو گا میری خواہش ہوتی ہو۔ یہ خواب کبھی بھی نہ ٹوٹے کیونکہ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ جب خواب ٹوٹتے ہیں تو انسان کو کتنا بکھیرتے ہیں۔ اب میں اپنی خواہش میں کس حد تک کامیاب ہونا ہوں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔

اگر آپ سچے اور کھرے انسان ہوں آپ اس ملک کو قیام کیلئے کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہو تو ISSB کلیر کرنا ایک معمولی سی بات ہے ایمانداری اور دیانت داری کرنا سیکھو، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کے چہروں پر دکھ لانے کی بجائے خوشیاں لاؤ اپنے والدین سے عشق کرو اپنے آپ کو ایک عظیم انسان بناؤ اور پھر سب سے بہت کر سب سے بڑھ کر اپنے سوہنے رب کے در پر سسکیاں بھر کر مانگو اور رور و کساری کا نکت کے مالک سے مانگو تو پھر یہ ISSB آپ کے قدم چھو لے گی۔

کام کرنے کیلئے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، وہاں ISSB میں اگر خانی بالکل نہیں کرنی بلکہ ذمہ داری کے احساس کیساتھ کام کرنا اور اپنا آپ پیش کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا کہ **you are the best selection for Army** وہاں پر کسی بھی مقام پر **Depress** نہیں ہونا کم ظرف اور جذباتی اور کمزور لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اسلئے ہر لمحہ کو سمجھ داری اور تحمل کے ساتھ لینا ہے بہادر بننا سیکھو، غرور بننا اور خاص کر ISSB میں ہر لمحہ سنجیدگی اور **Boldness** پیش کریں۔ اب موت تو برحق ہے ایک دن ضرور آئے گی۔ اگر آپ کے ایک طرف امی جان سوئی ہیں اور دوسری طرف ابو جان مگر جب موت آئی تو ان کے درمیان سے بھی آپ کو چھین کے لے جائے گی کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے جس کا ظاہری ایک بہانہ بن جاتا ہے چھوٹے کیا کہا تھا "ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اچھی یا پھر گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک سالہ زندگی بہتر ہے" سو بہت، بہادری والی اور غرور زندگی گزارو۔

بس خوب محنت کریں، خدا پر بھروسہ کریں، ہارجیت کے خوف کو دلے نکال کر اور والدین کے قدموں میں گر کر دعائیں لے کر جائیں، میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ کیلئے آپ کے والدین کے دل سے آنسوؤں اور سسکیوں بھری دعائیں جس بلندی تک آپ کو لے جا سکتیں ہیں خدا کی قسم میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔

اگر آپ صحیح معنوں میں نماز قائم کرتے ہو غلوں کیساتھ تو آپ کی آدمی ISSB کلیر ہے، ہو سکے تو تہجد پڑھو۔

اگر خدا خواستہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو یاد رکھنا بس یہ خدا کی مرضی تھی اور خدا آپ کو فورسز سے بھی کسی بہتر جگہ پر بھیجا چاہتا ہے وہ